



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

کے فقہی فتاویٰ کے اختلافی موارد / روزہ / واجبات روزہ / 2۔ مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا / مبطلات روزہ کے بعض احکام

مبطلات روزہ کے بعض احکام

مبطلات روزہ کے بعض احکام

مسئلہ ۸۷۶۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں (کھانا اور پینا وغیرہ) ان کے ذریعے اس صورت میں روزہ باطل ہے کہ جب کوئی شخص عمداً اور اختیار کے ساتھ انہیں انجام دے لیکن اگر عمداً نہ ہو مثلاً پاؤں پھسلنے سے پانی میں ڈوب جائے یا بھولے سے کھانا کھالے یا زبردستی کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دی جائے تو روزہ باطل نہیں ہے۔

مسئلہ ۸۷۷۔ اگر روزہ دار بھول کر کوئی ایسا کام کر لے جو روزے کو باطل کر دیتا ہو اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ باطل ہو چکا ہے اسی کام کو عمداً دوبارہ انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔

مسئلہ ۸۷۸۔ اگر روزہ دار کو روزہ باطل کرنے والے کسی کام پر مجبور کیا جائے مثلاً کھاجائے کہ اگر کھانا نہ کھایا تو توہم تمہیں جانی یا مالی نقصان پہنچائیں گے اور وہ نقصان سے بچنے کے لئے اپنے آپ غذا کھالے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔

مسئلہ ۸۷۹۔ اگر روزہ دار کو شک ہو جائے کہ روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام دیا ہے یا نہیں مثلاً شک کرے کہ پانی منہ میں ڈالنے کے بعد حلق تک پہنچا ہے یا نہیں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔